

File downloaded on 2026-06-11

Source URL: <https://medicines.health.europa.eu/veterinary/en/600000032316>

HYOGEN EMULSION FOR INJECTION

- Mycoplasma hyopneumoniae, strain 2940, Inactivated

Registruotas

## Vaisto identifikaciniai duomenys

Vaisto pavadinimas:

HYOGEN EMULSION FOR INJECTION

Veiklioji medžiaga:

- Pateikiama tik [Angl?](#)

Paskirties gyvūnų rėšis (-ys):

- Penima kiaulė

Naudojimo būdas:

- Leisti į raumenis

## Vaisto duomenys

Veiklioji medžiaga ir stiprumas:

- Pateikiama tik [Angl?](#)  
328.00  
enzyme-linked immunosorbent assay unit  
/  
2.00  
mililitrai

Vaisto forma:

- Injekcinė emulsija

Pasitraukimo laikotarpis administravimo būdu:

- Leisti į raumenis
  - Penima kiaulė
    - All relevant tissues  
0  
d.

Anatominės, terapinės ir cheminės veterinarinio vaisto klasifikacijos (ATCvet) kodas:

- QI09AB13

Tiekimo teisinis statusas:

- Parduodama tik su veterinariniu receptu

Registracijos statusas:

- Valid

Registruota:

- Pateikiama tik [Ispan?](#) [?ek?](#) [Vokie?i?](#) [Est?](#) [Angl?](#) [Pranc?z?](#) [Ital?](#) [Nyderland?](#) [Portugal?](#) [Slovak?](#) [Šved?](#) [Island?](#) [Norwegian](#)

Pakuot?s aprašymas:

- Pateikiama tik [Angl?](#)
- Pateikiama tik [Angl?](#)
- Pateikiama tik [Angl?](#)
- Pateikiama tik [Angl?](#)
- Pateikiama tik [Angl?](#)
- Pateikiama tik [Angl?](#)
- Pateikiama tik [Angl?](#)
- Pateikiama tik [Angl?](#)
- Pateikiama tik [Angl?](#)
- Pateikiama tik [Angl?](#)

## Papildoma informacija

Teisi? tipas:

- Pateikiama tik [Angl?](#) [Pranc?z?](#) [Kroat?](#) [Ital?](#) [Latvi?](#) [Suomi?](#) [Šved?](#) [Island?](#) [Norwegian](#)

Vaisto registracijos teisinis pagrindas:

- Pilna paraiška - Nauja veikloji medžiaga, pagal Direktyvos 2001/82/EB 12(3) straipsn?

Registruotojas:

- Ceva Sante Animale

Rinkodaros leidimo data:

- 5/06/2015

Serijos išleidimo gamybos vietos:

- Ceva-Phylaxia Zrt.

Atsakinga institucija:

- Federal Agency For Medicines And Health Products

Registracijos numeris:

- BE-V474524

Registracijos statuso pasikeitimo data:

- 5/06/2015

Referencin? valstyb? nar?:

- Pateikiama tik [Ispan?](#) [?ek?](#) [Vokie?i?](#) [Est?](#) [Angl?](#) [Pranc?z?](#) [Ital?](#) [Nyderland?](#) [Portugal?](#) [Slovak?](#) [?ved?](#) [Island?](#) [Norwegian](#)

Proced?ros numeris:

- FR/V/0278/001

Susijusios valstyb?s nar?s:

- Pateikiama tik [Ispan?](#) [?ek?](#) [Vokie?i?](#) [Est?](#) [Angl?](#) [Pranc?z?](#) [Ital?](#) [Nyderland?](#) [Portugal?](#) [Slovak?](#) [?ved?](#) [Island?](#) [Norwegian](#)
- Pateikiama tik [Ispan?](#) [?ek?](#) [Vokie?i?](#) [Est?](#) [Angl?](#) [Pranc?z?](#) [Ital?](#) [Nyderland?](#) [Portugal?](#) [Slovak?](#) [?ved?](#) [Island?](#) [Norwegian](#)
- Pateikiama tik [Ispan?](#) [?ek?](#) [Vokie?i?](#) [Est?](#) [Angl?](#) [Pranc?z?](#) [Ital?](#) [Nyderland?](#) [Portugal?](#) [Slovak?](#) [?ved?](#) [Island?](#) [Norwegian](#)
- Pateikiama tik [Ispan?](#) [?ek?](#) [Vokie?i?](#) [Est?](#) [Angl?](#) [Pranc?z?](#) [Kroat?](#) [Ital?](#) [Nyderland?](#) [Portugal?](#) [Slovak?](#) [?ved?](#) [? Island?](#) [Norwegian](#)
- Pateikiama tik [Ispan?](#) [?ek?](#) [Vokie?i?](#) [Est?](#) [Graik?](#) [Angl?](#) [Pranc?z?](#) [Ital?](#) [Nyderland?](#) [Portugal?](#) [Slovak?](#) [?ved?](#) [? Island?](#) [Norwegian](#)
- Pateikiama tik [Ispan?](#) [?ek?](#) [Vokie?i?](#) [Est?](#) [Angl?](#) [Pranc?z?](#) [Ital?](#) [Latvi?](#) [Nyderland?](#) [Portugal?](#) [Slovak?](#) [?ved?](#) [? Island?](#) [Norwegian](#)
- Pateikiama tik [Ispan?](#) [?ek?](#) [Vokie?i?](#) [Est?](#) [Angl?](#) [Pranc?z?](#) [Ital?](#) [Nyderland?](#) [Portugal?](#) [Slovak?](#) [?ved?](#) [Island?](#) [Norwegian](#)
- Pateikiama tik [Ispan?](#) [Vokie?i?](#) [Est?](#) [Angl?](#) [Pranc?z?](#) [Ital?](#) [Nyderland?](#) [Portugal?](#) [Slovak?](#) [Suomi?](#) [?ved?](#) [Island?](#) [Norwegian](#)
- Pateikiama tik [Ispan?](#) [?ek?](#) [Vokie?i?](#) [Est?](#) [Angl?](#) [Pranc?z?](#) [Ital?](#) [Nyderland?](#) [Portugal?](#) [Slovak?](#) [?ved?](#) [Island?](#) [Norwegian](#)
- Pateikiama tik [Ispan?](#) [?ek?](#) [Vokie?i?](#) [Est?](#) [Angl?](#) [Pranc?z?](#) [Ital?](#) [Nyderland?](#) [Portugal?](#) [Slovak?](#) [?ved?](#) [Island?](#) [Norwegian](#)
- Pateikiama tik [Ispan?](#) [?ek?](#) [Vokie?i?](#) [Est?](#) [Angl?](#) [Pranc?z?](#) [Ital?](#) [Nyderland?](#) [Portugal?](#) [Slovak?](#) [?ved?](#) [Island?](#) [Norwegian](#)
- Pateikiama tik [Ispan?](#) [?ek?](#) [Vokie?i?](#) [Est?](#) [Angl?](#) [Pranc?z?](#) [Ital?](#) [Nyderland?](#) [Portugal?](#) [Slovak?](#) [?ved?](#) [Island?](#) [Norwegian](#)
- Pateikiama tik [Ispan?](#) [?ek?](#) [Vokie?i?](#) [Est?](#) [Angl?](#) [Pranc?z?](#) [Ital?](#) [Nyderland?](#) [Portugal?](#) [Slovak?](#) [?ved?](#) [Island?](#) [Norwegian](#)
- Pateikiama tik [Ispan?](#) [?ek?](#) [Vokie?i?](#) [Est?](#) [Angl?](#) [Pranc?z?](#) [Ital?](#) [Nyderland?](#) [Portugal?](#) [Slovak?](#) [?ved?](#) [Island?](#) [Norwegian](#)
- Pateikiama tik [Ispan?](#) [?ek?](#) [Vokie?i?](#) [Est?](#) [Angl?](#) [Pranc?z?](#) [Ital?](#) [Nyderland?](#) [Portugal?](#) [Slovak?](#) [?ved?](#) [Island?](#) [Norwegian](#)
- Pateikiama tik [Ispan?](#) [?ek?](#) [Vokie?i?](#) [Est?](#) [Angl?](#) [Pranc?z?](#) [Ital?](#) [Nyderland?](#) [Portugal?](#) [Slovak?](#) [?ved?](#) [Island?](#) [Norwegian](#)

- Pateikiama tik [Ispan? ?ek? Vokie?i? Est? Angl? Pranc?z? Ital? Nyderland? Portugal? Slovak? Šved? Island? Norwegian](#)
- Pateikiama tik [Ispan? ?ek? Vokie?i? Est? Angl? Pranc?z? Ital? Nyderland? Portugal? Slovak? Šved? Island? Norwegian](#)
- Rumunija
- Pateikiama tik [Ispan? ?ek? Vokie?i? Est? Angl? Pranc?z? Ital? Nyderland? Portugal? Slovak? Šved? Island? Norwegian](#)
- Pateikiama tik [Ispan? ?ek? Vokie?i? Est? Angl? Pranc?z? Ital? Nyderland? Portugal? Slovak? Šved? Island? Norwegian](#)
- Pateikiama tik [Ispan? ?ek? Vokie?i? Est? Angl? Pranc?z? Kroat? Ital? Nyderland? Portugal? Slovak? Šved? ? Island? Norwegian](#)
- Pateikiama tik [Ispan? ?ek? Vokie?i? Est? Angl? Pranc?z? Ital? Nyderland? Portugal? Slovak? Šved? Island? Norwegian](#)
- Jungtin? Karalyst? (Šiaur?s Airija)

Pranešimai apie ?tariamus nepageidaujamus reiškinius: [www.adrreports.eu/vet](http://www.adrreports.eu/vet)

## Dokumentai

### Produkto informacija

Veterinarinio vaisto aprašas

Šis dokumentas neegzistuoja šia kalba (@Language). J? galite rasti kita kalba žemiau.

[Kitos kalbos \(3\)](#)

Pranc?z? (PDF)

Paskelbta: 13/03/2026

[Parsisi?sti](#)

Vokie?i? (PDF)

Paskelbta: 13/03/2026

[Parsisi?sti](#)

Nyderland? (PDF)

Paskelbta: 13/03/2026

[Parsisi?sti](#)

Pakuot?s lapelis

Šis dokumentas neegzistuoja šia kalba (@Language). J? galite rasti kita kalba žemiau.

[Kitos kalbos \(3\)](#)

Pranc?z? (PDF)

Paskelbta: 13/03/2026

[Parsisi?sti](#)

Vokie?i? (PDF)

Paskelbta: 13/03/2026

[Parsisi?sti](#)

Nyderland? (PDF)

Paskelbta: 13/03/2026

[Parsisi?sti](#)

Ženklīnimas

Šis dokumentas neegzistuoja ūia kalba (@Language). J? galite rasti kita kalba ūemiau.

[Kitos kalbos \(3\)](#)

Pranc?z? (PDF)

Paskelbta: 13/03/2026

[Parsisi?sti](#)

Vokie?i? (PDF)

Paskelbta: 13/03/2026

[Parsisi?sti](#)

Nyderland? (PDF)

Paskelbta: 13/03/2026

[Parsisi?sti](#)

Combined File of all Documents

Šis dokumentas neegzistuoja ūia kalba (@Language). J? galite rasti kita kalba ūemiau.

[Kitos kalbos \(1\)](#)

Angl? (PDF)

Paskelbta: 14/03/2026

[Parsisi?sti](#)

## **Viešojo vertinimo ataskaita (-os)**

eu-puar-frv0278001-mr-rpe776-en.pdf

Angl? (PDF)

Paskelbta: 13/03/2026

[Parsisi?sti](#)